

Rom

Chapter 15

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Ὄφειλομεν δὲ, ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ, τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων
چاہیے پس ہم جو-ہیں طاقتور - کمزوریوں-کو کی- کمزوروں
[G3784](#) [G1161](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1415](#) [G3588](#) [G0771](#) [G3588](#) [G0102](#)

βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.
اٹھانا اور نہ اپنے-آپ-کو خوش-کرنا
[G0941](#) [G2532](#) [G3361](#) [G1438](#) [G0700](#)

گزاریں نہ زندگی خاطر کی کرنے خوش کو آپ اپنے صرف ہم کریں۔ برداشت کمزوریاں کی کمزوروں کہ بے فرض کا وروں طاقت ہم

2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω, εἰς τὸ ἀγαθὸν, πρὸς
ہر-ایک ہم-میں-سے - پڑوسی-کو خوش-کرے - کے-لیے - بھلائی کے-لیے-
[G1538](#) [G1473](#) [G3588](#) [G4139](#) [G0700](#) [G1519](#) [G3588](#) [G0018](#) [G4314](#)

οἰκοδομήν.

ترقی
[G3619](#)

کرے۔ خوش لئے کے ترقی و تعمیر روحانی اور بہتری کی اُس کو پڑوسی اپنے ایک ہر بلکہ

3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἠρесе; ἀλλὰ, καθὼς γέγραπται, Οἱ
بھی - بے-شک - مسیح-نے نہیں اپنے-آپ-کو خوش-کیا بلکہ جیسا لکھا-ہے -
[G2532](#) [G1063](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3756](#) [G1438](#) [G0700](#) [G0235](#) [G2531](#) [G1125](#) [G3588](#)

ὄνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε, ἐπέπεσαν ἐπ' ἐμέ.
ملامتیں کی- ملامت-کرنے-والوں تیری گریں پر- مجھ
[G3680](#) [G3588](#) [G3679](#) [G4771](#) [G1968](#) [G1909](#) [G1473](#)

کی اُن ہیں دیتے گالیاں تجھے جو ہے، لکھا یہی میں بارے کے اُس میں مُقدس کلام گزاری۔ نہیں زندگی لئے کے رکھنے خوش کو خود بھی نے مسیح کیونکہ
ہیں۔ گئی آ پر مجھ گالیاں

4 ὅσα γὰρ προεγράφη, (πάντα) εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη,
جو-کچھ بے-شک پہلے-لکھا-گیا سب کے-لیے - ہماری تعلیم لکھا-گیا
[G3745](#) [G1063](#) [G4270](#) [G3956](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2251](#) [G1319](#) [G1125](#)

ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν, τὴν
تاکہ - سے - صبر اور سے - تسلی - کی- کتابوں -
[G2443](#) [G1223](#) [G3588](#) [G5281](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3874](#) [G3588](#) [G1124](#) [G3588](#)

ἐλπίδα ἔχωμεν.
امید رکھیں
[G1680](#) [G2192](#)

پائیں۔ امید سے باتوں افزا حوصلہ کی مُقدس کلام اور قدمی ثابت ہم تاکہ گیا لکھا لئے کے نصیحت ہماری ہمیں کچھ سب یہ

5 ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως, δὴν ὑμῖν τὸ
- اب خدا - صبر-کا اور - تسلی دے تمہیں -
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G5281](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3874](#) [G1325](#) [G4771](#) [G3588](#)

αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις, κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν,
ایک-جیسی سوچ-رکھنا سے- ایک-دوسرے مطابق مسیح یسوع
[G0846](#) [G5426](#) [G1722](#) [G0240](#) [G2596](#) [G5547](#) [G2424](#)

گزاریں۔ زندگی ساتھ کے دوسرے ایک میں روح کی یگانگت کر اپنا نمونہ کا عیسیٰ مسیح آپ کہ دے توفیق کو آپ خدا والا دینے حوصلہ اور قدمی ثابت اب

6 ἵνα ὁμοθυμαδὸν, ἐν ἐνὶ στόματι, δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα τοῦ
 -کے باپ-کو اور خدا - جلال-دو منہ ایک سے ایک-دلی-سے تاکہ
[G2443](#) [G3661](#) [G1722](#) [G1520](#) [G4750](#) [G1392](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3962](#) [G3588](#)

Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ.
 خداوند ہمارے یسوع مسیح
[G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#)

گے۔ سکین دے جلال کو باپ کے مسیح عیسیٰ خداوند ہمارے خدا، ساتھ کے آواز ہی ایک کر مل آپ ہی تب

7 Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς,
 پس قبول-کرو قبول-کیا مسیح-نے - بھی جیسا ایک-دوسرے-کو جلال-دو منہ ایک سے ایک-دلی-سے تاکہ
[G1352](#) [G4355](#) [G0240](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G4355](#) [G4771](#)

εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ.
 -کے-لیے جلال - خدا-کے
[G1519](#) [G1391](#) [G3588](#) [G2316](#)

ملے۔ جلال کو اللہ تاکہ کریں قبول بھی کو دوسرے ایک طرح اسی ہے کیا قبول کو آپ نے مسیح طرح جس چنانچہ

8 λέγω γὰρ, Χριστὸν διάκονον γενεῆσθαι περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ,
 کہتا-ہوں بے-شک مسیح خادم بنا ختنہ-کا -کے-لیے سچائی-کی خدا
[G3004](#) [G1063](#) [G5547](#) [G1249](#) [G1096](#) [G4061](#) [G5228](#) [G0225](#) [G2316](#)

εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων,
 تاکہ - پکا-کرنے - وعدوں-کو - باپ-دادا-کو
[G1519](#) [G3588](#) [G0950](#) [G3588](#) [G1860](#) [G3588](#) [G3962](#)

تھے۔ گئے کئے سے یعقوب اور اسحاق ابراہیم، جو کرے تصدیق کی وعدوں اُن تاکہ بنا خادم کا یہودیوں کے کر اظہار کا صداقت کی اللہ مسیح کہ رکھیں یاد

9 τὰ δὲ ἔθνη, ὑπὲρ ἐλέους, δοξάσαι τὸν Θεόν; καθὼς γέγραπται, Διὰ
 - اور -کے-لیے رحم جلال-دیں - خدا-کا جیسا لکھا-ہے اسی-لیے
[G3588](#) [G1161](#) [G1484](#) [G5228](#) [G1656](#) [G1392](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2531](#) [G1125](#) [G1223](#)

τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ.
 اس حمد-کروں-گا میں تیری -میں تیری اور غیر-قوموں کے- نام تیرے گاؤں-گا
[G3778](#) [G1843](#) [G4771](#) [G1722](#) [G1484](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3686](#) [G4771](#) [G5567](#)

میں اقوام میں لئے [اس ہے، لکھا یہی میں مُقدس کلام ہے۔ کیا پر اُن نے اُس جو دیں جلال لئے کے رحم اُس کو اللہ غیر یہودی کہ بنا خادم بھی لئے اِس وہ
 گا۔ [گاؤں گیت میں تعریف کی نام تیرے گا، کروں ثنا و حمد تیری

10 καὶ πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε ἔθνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
 اور پھر کہتا-ہے خوشی-مناؤ غیر-قوموں کے-ساتھ - قوم اس-کی
[G2532](#) [G3825](#) [G3004](#) [G2165](#) [G1484](#) [G3326](#) [G3588](#) [G2992](#) [G0846](#)

مناؤ! [خوشی ساتھ کے اُمّت کی اُس قوموں، دیگر [اے ہے، لکھا بھی یہ

11 καὶ πάλιν, Αἰνεῖτε πάντα τὰ ἔθνη, τὸν Κύριον; καὶ ἐπαινεσάτωσαν
 اور پھر حمد-کرو سب - غیر-قوموں - خداوند-کی اور تعریف-کریں
[G2532](#) [G3825](#) [G0134](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1484](#) [G3588](#) [G2962](#) [G2532](#) [G1867](#)

αὐτὸν, πάντες οἱ λαοί.
 اس-کی سب - قومیں
[G0846](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2992](#)

کرو! [ستائش کی اُس اُمّتوں، تمام اے کرو! تمجید کی رب اقوام، تمام [اے ہے، لکھا پھر

12 καὶ πάλιν, Ἡσαΐας λέγει, Ὅτι ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ
اور پھر یسعیاہ کہتا ہے آئے گی - جز - یسعی کی اور -
[G2532](#) [G3825](#) [G2268](#) [G3004](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4491](#) [G3588](#) [G2421](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν; ἐπ' αὐτῷ ἔθνη ἐλπιούσιν.
اٹھنے والا حکومت کرنے غیر قوموں پر - پر اس غیر قومیں امید رکھیں گی
[G0450](#) [G0757](#) [G1484](#) [G1909](#) [G0846](#) [G1484](#) [G1679](#)

آس پر آس غیر یہودی گا۔ کرے حکومت پر قوموں جو گا اٹھے آدمی ایسا ایک گی، نکلے بھوٹ کونہل ایک سے جڑ کی یسعی ہے، فرماتا یہ نبی یسعیاہ اور
گے۔ رکھیں

13 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης,
- اور - امید کا بھر دے تمہیں ساری خوشی اور سلامتی سے
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1680](#) [G4137](#) [G4771](#) [G3956](#) [G5479](#) [G2532](#) [G1515](#)

ἐν τῷ πιστεύειν; εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν
- میں - ایمان لانے کے لیے - بھر پور ہونا تم میں - امید میں
[G1722](#) [G3588](#) [G4100](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4052](#) [G4771](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1680](#) [G1722](#)

δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου.
قوت روح کی پاک
[G1411](#) [G4151](#) [G0040](#)

جائے چھلک سے دل کر بڑھ امید کی آپ سے قدرت کی القدس روح تاکہ کرے معمور سے سلامتی اور خوشی ہر باعث کے رکھنے ایمان کو آپ خدا کا امید

14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ
یقین رکھتا ہوں پس بھائیو میرے بھی خود میں بارے میں تمہارے کہ بھی
[G3982](#) [G1161](#) [G0080](#) [G1473](#) [G2532](#) [G0846](#) [G1473](#) [G4012](#) [G4771](#) [G3754](#) [G2532](#)

αὐτοὶ μεστοὶ ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως, δυνάμενοι
تم خود بھرے ہو بو بھلائی سے بھرے ہوئے سارے علم سے قادر ہونے والے
[G0846](#) [G3324](#) [G1510](#) [G0019](#) [G4137](#) [G3956](#) [G3588](#) [G1108](#) [G1410](#)

καὶ ἀλλήλους νοθετεῖν.
بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے
[G2532](#) [G0240](#) [G3560](#)

قابل کے کرنے نصیحت کو دوسرے ایک اور ہیں رکھتے عرفان و علم کا طرح ہر آپ کہ ہیں، معمور سے بھلائی خود آپ کہ ہے یقین پورا مجھے بھائیو، میرے
ہیں۔ بھی

15 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς,
زیادہ دلیری سے پھر لکھا ہے تمہیں سے کچھ حصہ جیسے یاد دلاتے ہوئے تمہیں
[G5112](#) [G1161](#) [G1125](#) [G4771](#) [G0575](#) [G3313](#) [G5613](#) [G1878](#) [G4771](#)

διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,
خاطر - فضل کی - دیئے گئے مجھے سے خدا
[G1223](#) [G3588](#) [G5485](#) [G3588](#) [G1325](#) [G1473](#) [G5259](#) [G3588](#) [G2316](#)

سے فضل کے اللہ میں کیونکہ ہے۔ کی دلیری کی لکھنے باتیں کئی کو آپ خاطر کی دلانے یاد نے میں تو بھی

16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη,
کے لیے - بونا مجھے خادم مسیح یسوع کا کے لیے غیر قوموں
[G1519](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1473](#) [G3011](#) [G5547](#) [G2424](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1484](#)

ἰεουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν
خدمت کرنے والا - خوشخبری کی - خدا کی تاکہ ہو نذر کی
[G2418](#) [G3588](#) [G2098](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2443](#) [G1096](#) [G3588](#) [G4376](#) [G3588](#)

ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.
غیر قوموں قبول یوگ پاک کیے گئے روح پاک
[G1484](#) [G2144](#) [G0037](#) [G1722](#) [G4151](#) [G0040](#)

تاکہ ہوں دیتا سرانجام خدمت سی کی امام کے المُقدّس بیت میں پھیلانے خبری خوش کی اللہ میں اور ہوں۔ خادم کا عیسیٰ مسیح لئے کے غیر یہودیوں آپ ہو۔ کیا مُقدّس و مخصوص لئے کے اُس نے القدس روح جسے اور آئے پسند کو اللہ جو جائیں بن قربانی ایسی ایک آپ

17 ἔχω οὖν τὴν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τὰ πρὸς τὸν Θεόν.
 خدا-سے - متعلق - یسوع مسیح - میں - فخر - پس رکھتا-ہوں
[G2192](#) [G3767](#) [G3588](#) [G2746](#) [G1722](#) [G5547](#) [G2424](#) [G3588](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2316](#)

ہوں۔ سکتا کر فخر پر خدمت اپنی سامنے کے اللہ میں عیسیٰ مسیح میں چنانچہ

18 οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν, ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι'
 سے- نہیں گات-شک نہیں جرات-کروں-گا کچھ بولنا کا- سوا پورا-کیا مسیح-نے سے
[G3756](#) [G1063](#) [G5111](#) [G5100](#) [G2980](#) [G3739](#) [G3756](#) [G2716](#) [G5547](#) [G1223](#)

ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ,
 میرے-ذریعے کے-لئے کی فرمانبرداری-کی غیر-قوموں-کی بات-سے اور سے-کام
[G1473](#) [G1519](#) [G5218](#) [G1484](#) [G3056](#) [G2532](#) [G2041](#)

ہیں۔ گئے ہو تابع کے اللہ غیر یہودی سے جس اور ہے کیا معرفت میری نے مسیح جو گا کروں جرأت کی کرنے بات میں بارے کے کام اُس صرف میں کیونکہ سے، عمل اور کلام کام یہ نے ہی مسیح ہاں،

19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος [θεοῦ]; ὥστε
 میں- قوت نشانوں-کی اور عجائب میں- قوت روح-کی خدا یہاں-تک-کہ
[G1722](#) [G1411](#) [G4592](#) [G2532](#) [G5059](#) [G1722](#) [G1411](#) [G4151](#) [G2316](#) [G5620](#)

με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ, καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ, πεπληρωκένα τὸ
 میں-نے سے- یروشلم اور چاروں-طرف تک - الیوریکم پوری-طرح-سنایا-ہے
[G1473](#) [G0575](#) [G2419](#) [G2532](#) [G2945](#) [G3360](#) [G3588](#) [G2437](#) [G4137](#) [G3588](#)

εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ;
 خوشخبری-کو مسیح-کی
[G2098](#) [G3588](#) [G5547](#)

اللہ کرتے کرتے سفر تک اَلرُّحْمٰ صوبہ کر لے سے یروشلم نے میں یوں ہے۔ دیا سرانجام سے قدرت کی روح کے اللہ اور سے قوت کی معجزوں اور نشانوں الہی ہے۔ کی پوری خدمت کی پھیلانے خبری خوش کی

20 οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα
 اسی-طرح پس خواہش-رکھتے-ہوئے خوشخبری-سانا نہیں جہاں نام-لیا-گیا-ہو مسیح-کا تاکہ
[G3779](#) [G1161](#) [G5389](#) [G2097](#) [G3756](#) [G3699](#) [G3687](#) [G5547](#) [G2443](#)

μὴ ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ;
 نہ پر- دوسرے-کی بنیاد تعمیر-کروں
[G3361](#) [G1909](#) [G0245](#) [G2310](#) [G3618](#)

نہیں تعمیر پر بنیاد ایسی میں کیونکہ پہنچی۔ نہیں خبر میں بارے کے مسیح جہاں سناؤں وہاں خبری خوش کہ سمجھا باعث کا عزت اپنی اسے میں اور تھی۔ ڈالی نے اور کسی جو تھا چاہتا کرنا

21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, Ὅψονται, «οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ»; καὶ
 بلکہ جیسا لکھا-ہے دیکھیں-گے جنہیں نہیں سنایا-گیا-تھا بارے-میں اس-کے اور
[G0235](#) [G2531](#) [G1125](#) [G3708](#) [G3739](#) [G3756](#) [G0312](#) [G4012](#) [G0846](#) [G2532](#)

οἱ οὐκ ἀκηκόασιν, συνήσουσιν.
 جنہوں-نے نہیں سنائے-گے سمجھیں-گے
[G3739](#) [G3756](#) [G0191](#) [G4920](#)

گی۔ آئے سمجھ انہیں سنا نہیں نے جنہوں اور گے، دیکھیں وہ گیا بتایا نہیں میں بارے کے اُس جنہیں ہے، فرماتا یہی مُقدّس کلام

22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.
 پس بھی رکاوٹ-رہا بہت-بار - کی-طرف آئے-سے تمہارے
[G1352](#) [G2532](#) [G1465](#) [G3588](#) [G4183](#) [G3588](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#)

بے۔گیا روکا سے آنے پاس کے آپ دفعہ اتنی مجھے کہ بے وجہ یہی

23 νυνὶ δὲ, μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ
 اب پھر اب جگہ رکھتے-ہوئے - میں - علاقوں ان بہت-خواہش پس
[G3570](#) [G1161](#) [G3371](#) [G5117](#) [G2192](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2824](#) [G3778](#) [G1974](#) [G1161](#)

ἔχων τοῦ ἔλθειν πρὸς ὑμᾶς, ἀπὸ ἰκανῶν ἐτῶν,
 رکھتے-ہوئے - آئے-کی -کی-طرف تمہارے سے بہت سالوں
[G2192](#) [G3588](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G0575](#) [G2425](#) [G2094](#)

ہو رہا آرزومند کا آنے پاس کے آپ سے سالوں اتنے میں چونکہ اور ہے۔ چکی ہو پوری خدمت میں علاقوں ان میری اب لیکن

24 ὡς ἂν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος
 جب-بھی کبھی جاؤں -کی-طرف - بسپانیہ امید-رکھتا-ہوں ہے-شک گزرتے-ہوئے
[G5613](#) [G0302](#) [G4198](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4681](#) [G1679](#) [G1063](#) [G1279](#)

θεάσασθαι ὑμᾶς; καὶ ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον
 دیکھوں-گا تمہیں اور سے-طرف تمہاری-طرف روانہ-کیا-جاؤں وہاں اگر سے-پہلے
[G2300](#) [G4771](#) [G2532](#) [G5259](#) [G4771](#) [G4311](#) [G1563](#) [G1437](#) [G4771](#) [G4412](#)

ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ.
 سے-سیر-ہو-جاؤں کچھ-حصہ سے
[G0575](#) [G3313](#) [G1705](#)

آگے آپ اور گا ملوں سے آپ میں راستے کہ بے امید ہے۔ بنایا منصوبہ کا جانے سپین نے میں کیونکہ ہوں۔ رکھتا امید کی کرنے پوری خواہش یہ اب لئے اس ہوں۔ چاہتا ہونا اندوز لطف سے رفاقت کی آپ لئے کے دیر کچھ میں پہلے لیکن گے۔ سکیں کر مدد میری لئے کے سفر کے

25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ, διακονῶν τοῖς ἁγίοις.
 اب پھر جا-رہا-ہوں -کی-طرف یروشلم خدمت-کرتے-ہوئے -کی-مقدسوں
[G3570](#) [G1161](#) [G4198](#) [G1519](#) [G2419](#) [G1247](#) [G3588](#) [G0040](#)

کروں۔خدمت کی مقدّسین کے وہاں تاکہ ہوں رہا جا یروشلم میں وقت اس

26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα, κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς
 راضی-ہوئے ہے-شک مقدونیہ اور اخیہ چندہ کچھ دینا کے-لیے
[G2106](#) [G1063](#) [G3109](#) [G2532](#) [G0882](#) [G2842](#) [G5100](#) [G4160](#) [G1519](#)

τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ.
 - غریبوں میں - مقدسوں - میں - یروشلم
[G3588](#) [G4434](#) [G3588](#) [G0040](#) [G3588](#) [G1722](#) [G2419](#)

ہیں۔غریب جو بے کیا فیصلہ کا کرنے جمع بدیہ لئے کے مقدّسین ان کے یروشلم نے جماعتوں کی اخیہ اور مکدّنیہ کیونکہ

27 εὐδόκησαν γὰρ, καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν; εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς
 راضی-ہوئے ہے-شک اور قرضدار ہیں ان-کے اگر ہے-شک میں -روحانی
[G2106](#) [G1063](#) [G2532](#) [G3781](#) [G1510](#) [G0846](#) [G1487](#) [G1063](#) [G3588](#) [G4152](#)

αὐτῶν ἐκοινωνήσαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς
 ان-کے شریک-ہوئے - غیر-قومیں چاہیے بھی میں -کے-جسمانی
[G0846](#) [G2841](#) [G3588](#) [G1484](#) [G3784](#) [G2532](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4559](#)

λειτουργῆσαι αὐτοῖς.
 خدمت-کریں ان-کی
[G3008](#) [G0846](#)

کا غیریہودیوں لئے اس ہیں، ہوئے شریک میں برکتوں روحانی کی یہودیوں تو غیریہودی ہے۔ بھی فرض کا ان یہ اصل در اور کیا سے خوشی یہ نے انہوں کریں۔خدمت کی ان کے کر شریک میں برکتوں مالی اپنی بھی کو یہودیوں وہ کہ بے فرض

28 τοῦτο οὖν ἐπιτέλεσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον,
یہ پس ختم-کر-کے اور مہر-لگا-کے ان-کو - پھل-کو اس
[G3778](#) [G3767](#) [G2005](#) [G2532](#) [G4972](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2590](#) [G3778](#)

ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν εἰς Σπανίαν.
نکلوں-گا سے-تمہارے تمہارے -کی-طرف بسپانیہ
[G0565](#) [G1223](#) [G4771](#) [G1519](#) [G4681](#)

گا۔ جاؤں سپین ہوا ہوتا ہے پاس کے آپ میں بعد کے پہنچانے تک داروں ایمان کے یروشلیم پھل سارا یہ کا بھائیوں مقامی اور کرنے ادا فرض یہ اپنا چنانچہ

29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας Χριστοῦ
جانتا-ہوں پس کہ آتے-ہوئے -کی-طرف تمہارے میں-پورے برکت-کی مسیح
[G1492](#) [G1161](#) [G3754](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1722](#) [G4138](#) [G2129](#) [G5547](#)

ἐλεύσομαι.
آؤں-گا
[G2064](#)

گا۔ آؤں کر لے برکت پوری کی مسیح تو گا آؤں پاس کے آپ میں جب کہ ہوں جانتا میں اور

30 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ,
میں-ترغیب-دیتا-ہوں پس تمہیں بھائیو سے-خداوند - بھارے یسوع مسیح
[G3870](#) [G1161](#) [G4771](#) [G0080](#) [G1223](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G2424](#) [G5547](#)

καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς
اور سے-محبت -کی-روح جدوجہد-کرو میں-میرے-ساتھ میں-
[G2532](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0026](#) [G3588](#) [G4151](#) [G4865](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3588](#)

προσευχῆς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν,
دعاؤں کے-لیے میرے -کی-طرف - خدا
[G4335](#) [G5228](#) [G1473](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2316](#)

میری ہوں اور کریں دعا سے اللہ لئے میرے آپ کہ ہوں کرتا منت سے آپ کر دلا یاد کو محبت کی القدس روح اور مسیح عیسیٰ خداوند ہمارے میں بھائیو،
جائیں۔ بو شریک میں جنگ روحانی

31 ἵνα ῥουσθῶ ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ ἡ διακονία
تاکہ بچایا-جاؤں سے-نافرمانوں میں-یہودیہ اور - خدمت
[G2443](#) [G4506](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0544](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2449](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1248](#)

μου, ἡ εἰς Ἱερουσαλὴμ, εὐπρόσδεκτος τοῖς ἁγίοις γένηται;
میری جو-ہے کے-لیے یروشلیم قبول-ہوگا -کو مقدسوں بو
[G1473](#) [G3588](#) [G1519](#) [G2419](#) [G2144](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1096](#)

آئے۔ پسند کو مُقدّسین کے وہاں خدمت میں یروشلیم میری کہ اور رہوں بچا سے داروں غیرایمان کے یہودیہ صوبہ میں کہ کریں دعا لئے کے اس

32 ἵνα ἐν χαρᾷ, ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ, συναναπαύσωμαι
تاکہ میں-خوشی -آ-کر -کی-طرف تمہارے سے-مرضی خدا-کی تازہ-دم-ہوؤں
[G2443](#) [G1722](#) [G5479](#) [G2064](#) [G4314](#) [G4771](#) [G1223](#) [G2307](#) [G2316](#) [G4875](#)

ὑμῶν.
تمہارے-ساتھ
[G4771](#)

ہو تازہ و تر سے رفاقت کی دوسرے ایک ہم اور بو خوشی میں دل میرے تو گا آؤں پاس کے آپ سے مرضی کی اللہ میں جب کہ ہوں چاہتا میں کیونکہ
جائیں۔

33 ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν.
- اور - - سلامتی-کا ہو سب تمہارے-ساتھ آمین
[G3588](#) [G1161](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1515](#) [G3326](#) [G3956](#) [G4771](#) [G0281](#)

